

Fables, Wisdom Literature, and Epic

BSU105

Semester 1

Credit Hours 03

This course has three components containing both readings and related activities: The first component is about fables—that is, stories with animal characters having human attributes. The second component concerns wisdom literature and looks specifically at some of the stories, both in prose and poetry, of the famous Persian literary figure Sa'di. We shall introduce this author to you. The third component is on the world's renowned epic—the *Odyssey* of another literary giant, Homer.

I. FABLES

کلیلہ و دمنہیا خرد افروز از سراج الدین (لاہور: مجلس ترقی ادب، 1963) کے سو ابواب شامل نصاب ہیں۔
 باب پنجم دوستون کی یک دلی کے فائدے میں
 باب ششم دشمنوں کے کاروبار و دنیا کے سوچنے اور ان کے فریب سے نذر رہنے میں
بانگِ درا

سر محمد اقبال، کلیاتِ اقبال (لاہور: اقبال اکیڈمی، 2021)

- | | |
|--------------------|----|
| ایک مکڑا اور مکھی | 1. |
| ایک پیڑا اور گلبری | 2. |
| ایک گائے اور بکری | 3. |
| پرندے کی فریاد | 4. |
| دریا موج | 5. |
| جگنو | 6. |
| ایک پرنده اور جگنو | 7. |
| ہمدردی | 8. |

II. WISDOM LITERATURE

GULISTĀN-E SA'DĪ (گلستان سعدی)

شیخ شرف الدین مصلح سعدی شیرازی، گلستان مترجم، مترجمہ مولانا قاضی سجاد حسین (لاہور: مکتبہ رحمانیہ، س ن)
 دس منتخب حکایات

- | | |
|---|-----|
| باب دوم، حکایت ششم: زابدے مہمان پادشاہ بود، صفحہ: 86 | -1 |
| باب اول، حکایت بیست: اورده اند که نوشیروان عادل را رشکار، صفحہ 57 | -2 |
| باب اول، حکایت بیست و یک: عاملے راشنیدم کہ خانہ رعیت خراب کر دے، صفحہ 57 | -3 |
| باب اول، حکایت بیست و بقتم: ظالمے را حکایت کنند کہ ہیزم درویش، صفحہ 66 | -4 |
| باب اول، حکایت بیست و نهم: درویشے مجرد بگوشہ صحرائے نشستہ بود، صفحہ 69 | -5 |
| باب اول، حکایت سی و یک: پادشاہے بکشتن اسیرے اشارد کر گفت، صفحہ 71 | -6 |
| باب اول، حکایت سی و ششم: دو برادر بودنیکے خدمت سلطان کر دے، صفحہ 75 | -7 |
| باب اول، حکایت سی و بیست: کسے مژده پیش نوشیروان عادل بردو گفت، صفحہ 76 | -8 |
| باب اول، حکایت چہل و یک: اسکندر رومی را پرسیدن، صفحہ 80 | -9 |
| باب دوم، حکایت سی و بیست: فیپے پدر را گفت بیچ ازین سخنان دلاویز، صفحہ 115 | -10 |

III. EPIC

Odyssey (جہاں گرد کی واپسی)

ہومر، جہاں گرد کی واپسی، مترجمہ محمد سلیم الرحمن (لاہور: القا پبلی کیشنز، 2012)

باب دوازدھم: پرآشوب مرحلے، ص 160 تا 172

